



فوٹو: سیلینا میک کیلم

برامپٹن فائر، عوامی آرٹ کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مربوط ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (11 جنوری 2022) – سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز (BFES) اسٹیشن 211 پر عوامی آرٹ پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ایک نئی دلکش دیوار کی نمائش کرنے پر فخر ہے، جس کو شہر کے ارد گرد جگہ کے مزید مواقع کی تلاش ہے۔ (STEPS سسٹم ایبل تھنکنگ اینڈ ایکسپریشن ان پبلک اسپیس ((پبلک آرٹ کے تعاون سے، دلکش رنگوں سے مزین ایک نئی دیوار تیار کی گئی ہے، جس میں کھلے دیہی علاقوں، مقامی جنگلی حیات اور علاقے کے زرعی ورثے کو منانے کی انتہائی پرکشش عکاسی کی گئی ہے۔

عوامی آرٹ کی تیاری اور پیشکش برامپٹن کے کلچر ماسٹر پلان کی ایک اہم ترجیح ہے اور یہ متنوع تخلیق کاروں اور ان کی کمیونٹی کے درمیان فنون کے ایک بامقصد تبادلے کی سہولت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کمیونٹی کی تعمیر کے لیے BFES کی جاری لگن کے ساتھ مل کر، یہ خوبصورت دیوار سماجی ہم آہنگی، جگہ سے تعلق اور برامپٹن کے لیے ایک منفرد اور مخصوص شناخت بنانے میں معاون ثابت ہو گی۔

یہ تیسرا اقدام ہے جس پر سٹی آف برامپٹن نے STEPS کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ 2021 میں [ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک پبلک آرٹ پائلٹ پروجیکٹ متعارف کرایا گیا تھا](#) جس کے تحت سٹور فرنٹس اور منتخب شدہ ٹریفک باکسز پر خوبصورت نقش و نگار بنائے جانے ہیں۔

آرٹسٹ کے متعلق

اس شاہکار کے پیچھے کا فنکار، پام لوسٹراکو، ایک مورالسٹ اور گرافک ڈیزائنر ہے جو برامپٹن میں پیدا ہوئی اور یہیں پر پلی بڑھی ہے۔ اس نے دو اسکالرشپس کے ساتھ OCAD سے گریجویشن کیا اور وہ برانڈز، کتابیں اور عکاسی بنانے والے ڈیزائن اسٹوڈیوز میں کام کر چکی ہیں۔ ڈیزائن میں لوسٹراکو کے تجربے اور بیرونی مقامات سے اس کی محبت نے دلکش دیواروں کے لیے اس کے جنون کو بڑھا دیا ہے، جس سے پورے کینیڈا میں نمائش کے لیے فن پارے تیار کیے گئے ہیں۔ اسٹیشن 211 کی دیوار کو فائر ہال کے فن تعمیر اور اس کے آس پاس کے قدرتی ماحول سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جو اس جیسے تخلیقی فن پاروں کی بدولت زیادہ دلکش ہوتا جا رہا ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہماری کمیونٹی میں جڑی ہوئی ہے اور رہائشیوں کے ساتھ مزید جڑنے اور آرٹ کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے ان کے اسٹیشنوں پر عوامی آرٹ کے حسین فن پارے دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"عوامی عمارتوں کو عوامی فنون کے ساتھ جگمگاتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ یہ دلچسپ پراجیکٹ مثبت اور کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو گا۔ یہ خوبصورت شاہکار بنانے کے لیے پام لوسٹرکو کا بہت شکریہ۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ کونسل پینل ممبر، آرٹس، کلچر اینڈ کریٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ہماری ثقافتی خدمات کی ٹیم اور STEPS کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا واضح کرتا ہے کہ اس طرح کے عظیم تعاون سے کمیونٹی کو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دلکش رنگوں سے مزین یہ دیواریں ہمارے فائر سٹیشنوں کو ان کے گردنواح سے جوڑیں گی کیونکہ حفاظت، رشتے کی تعمیر اور تخلیقی صلاحیتوں کی جگہیں، ہماری متحرک کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری پوری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم آگاہی پیدا کرنے، مربوط ہونے اور حفاظت کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے ساتھ دیرپا تعلقات استوار کرنے کے لیے وقف ہے۔ میں آج اپنی پہلی مزین دیوار کی نقاب کشائی کو دیکھ کر بہت پر جوش ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی کو ایک دوسرے سے جڑنے اور منسلک ہونے کا اور بھی زیادہ موقع فراہم کرے گی۔"

- بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"اس نئی مزین دیوار میں رنگ بھرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اور آرٹسٹ پام لوسٹرکو کے ساتھ مل کر کام کرنے پر STEPS کو خوشی محسوس ہو رہی ہے؛ جو فلاور سٹی کے آس پاس کے زرخیز کھیتوں اور قدرتی علاقوں کا ایک تخلیقی عکس ہے۔"

- ایرن گلور، انٹیرم پروگرام ڈائریکٹر، STEPS پبلک آرٹ

"یہ پروجیکٹ میرے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ برامپٹن میرا آبائی شہر ہے، جہاں میں شہر اور دیہی علاقوں کی سرحد پر رہتا تھا۔ جب ڈویژن چیف آف فائر نے اسٹیشن کے پیچھے مکئی کے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے ایک ہرن کے بارے میں بتایا، تو میں جانتی تھی کہ کھڑکی کے ڈیزائن کو قدرتی زندگی کے ساتھ ضم کرنا ہو گا اور عملہ ان کھڑکیوں سے دیکھی جانے والے زمین کی تزئین و آرائش کو سامنے لاتا ہے۔"

- پام لوسٹرکو، آرٹسٹ

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پراجکٹ کینٹھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca